

Time: 10 Minutes	Paper Math 3	Total Marks: 10
6th Month, 2nd Week, 5th Day		Syllabus: Review Exercise. Q # 3, 4, 5, 6.

Q.1. Draw the line segments according to the given measurements. ($2 \times 3 = 6$)

درج ذیل پیمانوں کے مطابق قطعہ خط کھینچیں۔

- (i) $Rs = 7\text{cm}$ (ii) $XY = 3\text{cm}$
 (iii) $AB = 5\text{cm}$

Q.2. Ahmad walks a square shaped ground with length 249m. How much distance does he cover in one round? (4)

احمد مربع نما گراؤنڈ میں جس کی لمبائی 249 میٹر ہے، چلتا ہے۔ اس نے ایک چکر میں کتنا فاصلہ طے کیا؟

Time: 10 Minutes	Paper Math 3	Total Marks: 10
6th Month, 2nd Week, 5th Day		Syllabus: Review Exercise. Q # 3, 4, 5, 6.

Q.1. Draw the line segments according to the given measurements. ($2 \times 3 = 6$)

درج ذیل پیمانوں کے مطابق قطعہ خط کھینچیں۔

- (i) $Rs = 7\text{cm}$ (ii) $XY = 3\text{cm}$
 (iii) $AB = 5\text{cm}$

Q.2. Ahmad walks a square shaped ground with length 249m. How much distance does he cover in one round? (4)

احمد مربع نما گراؤنڈ میں جس کی لمبائی 249 میٹر ہے، چلتا ہے۔ اس نے ایک چکر میں کتنا فاصلہ طے کیا؟

Time: 10 Minutes	Paper Math 3	Total Marks: 10
6th Month, 2nd Week, 5th Day		Syllabus: Review Exercise. Q # 3, 4, 5, 6.

Q.1. Draw the line segments according to the given measurements. ($2 \times 3 = 6$)

درج ذیل پیمانوں کے مطابق قطعہ خط کھینچیں۔

- (i) $Rs = 7\text{cm}$ (ii) $XY = 3\text{cm}$
 (iii) $AB = 5\text{cm}$

Q.2. Ahmad walks a square shaped ground with length 249m. How much distance does he cover in one round? (4)

احمد مربع نما گراؤنڈ میں جس کی لمبائی 249 میٹر ہے، چلتا ہے۔ اس نے ایک چکر میں کتنا فاصلہ طے کیا؟

Time: 10 Minutes	Paper Math 3	Total Marks: 10
6th Month, 2nd Week, 5th Day		Syllabus: Review Exercise. Q # 3, 4, 5, 6.

Q.1. Draw the line segments according to the given measurements. ($2 \times 3 = 6$)

درج ذیل پیمانوں کے مطابق قطعہ خط کھینچیں۔

- (i) $Rs = 7\text{cm}$ (ii) $XY = 3\text{cm}$
 (iii) $AB = 5\text{cm}$

Q.2. Ahmad walks a square shaped ground with length 249m. How much distance does he cover in one round? (4)

احمد مربع نما گراؤنڈ میں جس کی لمبائی 249 میٹر ہے، چلتا ہے۔ اس نے ایک چکر میں کتنا فاصلہ طے کیا؟